

# Lev

## Chapter 15

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1 וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה וְאֶל-בָּרֹנִי אֶהֱרֹן לְאֹמֶר:  
اور-کہا یہوواہ نے سے سے اور-سے اور-سے کہتے-ہوئے  
H1696 H3068 H0413 H4872 H0413 H0175 H0559

کہا، سے ہارون اور موسیٰ نے رب

2 דִּבְרוּ אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתֶּם אֲלֵהֶם אִישׁ אִישׁ כִּי יִהְיֶה זֶב  
بولو سے سے اسرائیل-کے اور-کہو ان-سے آدمی کوئی-بھی جب ہو بہاؤ-والا  
H1696 H0413 H3478 H0559 H0413 H0376 H0376 H2100 H1961

מִבְּשָׂרוֹ זֶבֶד וְטָמֵא הוּא:  
اپنے-جسم-سے اُس-کا-بہاؤ ناپاک ہے  
H1320 H2101 H2931 H1931

ہے، ناپاک سے سبب کے مائع والے ہونے خارج وہ تو ہو مرض کا جریان کو مرد کسی اگر کہ بتانا کو اسرائیلیوں

3 וְזָאת תְּהִיָּה בְּזִבּוֹתָם אֲשֶׁר-בְּשָׂרוֹ אֶת-זֶבֶד אֶז-הַחֲתִים  
اور-یہ ہوگی اُس-کی-ناپاکی اُس-کے-بہاؤ-میں بہتا-ہے اُس-کا-جسم اُس-کا-بہاؤ یا بند-ہو  
H2063 H1961 H2932 H2101 H7325 H1320 H0853 H2101 H2856

בְּשָׂרוֹ אֲשֶׁר-בְּזִבּוֹתָם אֲשֶׁר-בְּשָׂרוֹ  
اُس-کا-جسم اُس-کے-بہاؤ-سے اُس-کی-ناپاکی ہے  
H1320 H2101 H2932 H1931

ہو-گیا رُک یا ہو رہتا بہتا مائع چاہے

4 כָּל-הַמִּשְׁכָּב אֲשֶׁר-יִשְׁכַּב עָלָיו הִזְבּ יִטְמָא וְכָל-הַכֵּל אֲשֶׁר-יִשָּׁב עָלָיו  
ہر ہستہ جس-پر لیٹے اُس-پر بہاؤ-والا اور-پر ناپاک-ہوگا اور-پر چیز جس-پر بیٹھے اُس-پر  
H3605 H4904 H7901 H2100 H3605 H3627 H3427 H5704

יִטְמָא:  
ناپاک-ہوگی

ہے۔ ناپاک وہ ہے بیٹھتا یا لیٹتا مریض بھی پر چیز جس

5 וְאִישׁ אֲשֶׁר יִנַּע בְּמִשְׁכָּבוֹ יִכְסֶּה דְּהוּתָּהּ אֲשֶׁר-יִשָּׁב עָלָיו  
اور-آدمی جو چھوئے اُس-کے-بستہ-کو دھوئے اپنے-کپڑے اور-نہائے پانی-میں اور-ناپاک-رہے  
H0376 H5060 H4904 H3526 H7364 H4325 H5704

הָעֶרְב:  
شام  
H6153

گا۔ رہے ناپاک تک شام وہ لے۔ نہا کر دھو کپڑے اپنے وہ جائے بیٹھ پر جگہ کی بیٹھنے کے اُس یا چھوئے کو جگہ کی لیٹنے کے اُس بھی جو

6	וְהַיֵּשֶׁב־ اور-جو-بیٹھے	עַל- اُس-پر	הַכֵּלִי چیز	אֲשֶׁר- جس-پر	יֵשֵׁב بیٹھا	עָלָיו اُس-پر	הַזָּב بھاؤ-والا	יִכְבֵּס دھوئے	בְּנִדְוִי اپنے-کپڑے	וְרַחֵץ اور-نہائے	בְּמַיִם پانی-میں
	<a href="#">H3427</a>	<a href="#">H3627</a>	<a href="#">H3427</a>	<a href="#">H3427</a>	<a href="#">H3427</a>	<a href="#">H3427</a>	<a href="#">H2100</a>	<a href="#">H3526</a>	<a href="#">H7364</a>	<a href="#">H7364</a>	<a href="#">H4325</a>

וְטָמְא  
اور-ناپاک-رے

עַד-  
تک

הָעֶרֶב:  
شام

[H5704](#)

[H6153](#)

گا۔رے ناپاک تک شام وہ لے۔ نہا کر دھو کپڑے اپنے وہ جائے بیٹھ پر جگہ کی بیٹھنے کے اُس یا چھوئے کو جگہ کی لیٹنے کے اُس بھی جو

7	וְהִזְנֵעַ اور-جو-چھوئے	בְּجִסְמוֹ جسم-کو	הַזָּב بھاؤ-والے-کے	יִכְבֵּס دھوئے	בְּנִדְוִי اپنے-کپڑے	וְרַחֵץ اور-نہائے	בְּמַיִם پانی-میں	וְטָמְא اور-ناپاک-رے	עַד- تک	הָעֶרֶב: شام
	<a href="#">H5060</a>	<a href="#">H1320</a>	<a href="#">H2100</a>	<a href="#">H3526</a>	<a href="#">H7364</a>	<a href="#">H7364</a>	<a href="#">H4325</a>	<a href="#">H5704</a>	<a href="#">H5704</a>	<a href="#">H6153</a>

گا۔رے ناپاک تک شام وہ لے۔ نہا کر دھو کپڑے اپنے وہ چھوئے کو مریض ایسے بھی جو طرح اسی

8	וְכִי- اور-جب	יָרַק تھوکه	הַזָּב بھاؤ-والا	בְּטָהוֹר پاک-پر	וְכִבֵּס تو-دھوئے	בְּנִדְוִי اپنے-کپڑے	וְרַחֵץ اور-نہائے	בְּמַיִם پانی-میں	וְטָמְא اور-ناپاک-رے	עַד- تک	הָעֶרֶב: شام
	<a href="#">H7556</a>	<a href="#">H2100</a>	<a href="#">H2100</a>	<a href="#">H2889</a>	<a href="#">H3526</a>	<a href="#">H7364</a>	<a href="#">H7364</a>	<a href="#">H4325</a>	<a href="#">H5704</a>	<a href="#">H5704</a>	<a href="#">H6153</a>

گا۔رے ناپاک تک شام شخص وہ اور بے کرنا کچھ یہی تو تھوکه پر شخص پاک کسی مریض اگر

9	וְכָל- اور-ہر	הַמְזֻרָב سواری	אֲשֶׁר جس-پر	יִרְכַּב سوار-بو	עָלָיו اُس-پر	הַזָּב بھاؤ-والا	יִטְמָא: ناپاک-بوگی
	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H4817</a>	<a href="#">H7392</a>	<a href="#">H7392</a>	<a href="#">H2100</a>	<a href="#">H2100</a>	

بے۔ناپاک بے جاتا بیٹھ وہ پر جس چیز ہر تو بے ہوتا سوار پر جانور کسی مریض ایسا جب

10	וְכָל- اور-ہر	הַזֵּיעַ جو-چھوئے	כָּל کسی-بھی	אֲשֶׁר چیز-کو-جو	יְהִי ہو	תַּחֲתָיו اُس-کے-نیچے	יִטְמָא ناپاک-بوگا	עַד- تک	הָעֶרֶב شام	וְהַנּוֹשֵׂא اور-جو-اُٹھائے
	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H5060</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H8478</a>	<a href="#">H5704</a>	<a href="#">H5704</a>	<a href="#">H6153</a>	<a href="#">H5375</a>

אוֹתָם  
اُنہیں

יִכְבֵּס  
دھوئے

בְּנִדְוִי  
اپنے-کپڑے

וְרַחֵץ  
اور-نہائے

בְּמַיִם  
پانی-میں

וְטָמְא  
اور-ناپاک-رے

עַד-  
تک

הָעֶרֶב:  
شام

[H0853](#)

[H3526](#)

[H7364](#)

[H4325](#)

[H5704](#)

[H6153](#)

گا۔رے ناپاک تک شام وہ لے۔ نہا کر دھو کپڑے اپنے وہ جائے لے کر اُٹھا اُسے یا چھوئے چیز ایسی بھی جو

11	וְכָל- اور-ہر	אֲשֶׁר جسے	יָנַע- چھوئے	בּוֹ اُسے	הַזָּב بھاؤ-والا	וַיָּדִי اور-اپنے-ہاتھ	לֹא- نہ	שָׁטַף دھوئے	בְּמַיִם پانی-میں	וְכִבֵּס تو-دھوئے	בְּנִדְוִי اپنے-کپڑے
	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H5060</a>	<a href="#">H5060</a>	<a href="#">H2100</a>	<a href="#">H2100</a>	<a href="#">H3027</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H7857</a>	<a href="#">H4325</a>	<a href="#">H3526</a>	<a href="#">H3526</a>

וְרַחֵץ  
اور-نہائے

בְּמַיִם  
پانی-میں

וְטָמְא  
اور-ناپاک-رے

עַד-  
تک

הָעֶרֶב:  
شام

[H7364](#)

[H4325](#)

[H5704](#)

[H6153](#)

گا۔رے ناپاک تک شام وہ لے۔ نہا کر دھو کپڑے اپنے وہ چھوئے بغیر دھوئے ہاتھ اپنے مریض بھی کو کسی جس

12	וְכָל־ اور-برتن	חֲרָשׁ مٹی-کا	אֲשֶׁר- جسے	יָנַע- چھوئے	בּוֹ اُسے	הַזָּב بھاؤ-والا	יִשְׁבֵּר توڑا-جائے	וְכָל- اور-برتن	כְּלִי- لکڑی-کا	עֵץ لکڑی-کا	יִשְׁטַף دھویا-جائے	בְּמַיִם: پانی-میں
	<a href="#">H3627</a>	<a href="#">H2789</a>	<a href="#">H5060</a>	<a href="#">H5060</a>	<a href="#">H2100</a>	<a href="#">H2100</a>	<a href="#">H7665</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H3627</a>	<a href="#">H6086</a>	<a href="#">H7857</a>	<a href="#">H4325</a>

جائے۔دھویا خوب اُسے چھوئے وہ برتن جو کا لکڑی جائے۔ دیا توڑ اُسے چھوئے مریض ایسا برتن جو کا مٹی



19 וְאִשָּׁהּ - اور-عورت H0802  
 כִּי- תִהְיֶה - جب ہو H1961  
 זָהָה - بہاؤ-والی H2101  
 דָּם - خون H1818  
 יִהְיֶה - ہو H1961  
 זָבָה - اُس-کا-بہاؤ H2100  
 אִם-כֵּן - اُس-کے-جسم-میں H1320  
 שְׂבַע - سات H7651  
 יָמִים - دن H3117  
 תִּהְיֶה - رہے H1961

בְּנִדְתָּהּ - اپنی-ماہواری-میں H5079  
 וְכָל- اور-ہر H3605  
 הַזָּע - جو-چھوئے H5060  
 כָּה - اُسے H5060  
 יִטְמָא - ناپاک-ہوگا H5704  
 עַד- تک H5704  
 הָעֶרְב: - شام H6153

گا۔ رہے ناپاک تک شام وہ چھوئے اُسے بھی جو ہے۔ ناپاک تک دن سات عورت وقت کے ماہواری

20 וְכָל- اور-ہر H3605  
 אֲשֶׁר - جس-پر H3605  
 תִּשְׁכַּב - لیٹے H7901  
 עֲלָיו - اُس-پر H7901  
 בְּנִדְתָּהּ - اپنی-ماہواری-میں H5079  
 יִטְמָא - ناپاک-ہوگا H3605  
 וְכָל- اور-ہر H3605  
 אֲשֶׁר - جس-پر H3605  
 תִּשְׁב - بیٹھے H3427  
 עֲלָיו - اُس-پر H3427  
 יִטְמָא: - ناپاک-ہوگا H3427

ہے۔ ناپاک وہ ہے بیٹھتی یا لیٹتی وہ بھی پر چیز جس دوران اس

21 וְכָל- اور-ہر H3605  
 הַזָּע - جو-چھوئے H5060  
 בְּמִשְׁכָּבָהּ - اُس-کے-بستر-کو H4904  
 יִכָּס - دھوئے H3526  
 בְּנִדְו - اپنے-کپڑے H7364  
 וְרָחַץ - پانی-میں H4325  
 בְּמִים - اور-ناپاک-رہے H4325  
 יִטְמָא - اور-ناپاک-رہے H5704  
 עַד- تک H5704  
 הָעֶרְב: - شام H6153

گا۔ رہے ناپاک تک شام وہ لے۔ نہا کر دھو کپڑے اپنے وہ جائے بیٹھ پر جگہ کی بیٹھنے کے اُس یا چھوئے کو جگہ کی لیٹنے کے اُس بھی جو

22 וְכָל- اور-ہر H3605  
 הַזָּע - جو-چھوئے H5060  
 בְּכָל- کسی-بھی H3605  
 כִּלְי - چیز-کو H3627  
 אֲשֶׁר - جس-پر H3627  
 תִּשְׁב - بیٹھی H3427  
 עֲלָיו - اُس-پر H3427  
 יִכָּס - دھوئے H3526  
 בְּנִדְו - اپنے-کپڑے H3526  
 וְרָחַץ - پانی-میں H4325  
 בְּמִים - اور-ناپاک-رہے H4325

יִטְמָא - اور-ناپاک-رہے H5704  
 עַד- تک H5704  
 הָעֶרְב: - شام H6153

گا۔ رہے ناپاک تک شام وہ لے۔ نہا کر دھو کپڑے اپنے وہ جائے بیٹھ پر جگہ کی بیٹھنے کے اُس یا چھوئے کو جگہ کی لیٹنے کے اُس بھی جو

23 וְאִם - اور-اگر H4904  
 עָלָה - پر H4904  
 הַמִּשְׁכָּב - بستر H4904  
 הוּא - وہ H1931  
 אֹז - یا H1931  
 עָלָה - پر H3627  
 הַכִּלְי - چیز H3627  
 אֲשֶׁר - جس-پر H3627  
 הוּא - وہ H1931  
 יִשְׁבַּת - بیٹھی-ہو H3427  
 עֲלָיו - اُس-پر H3427  
 בְּנִדְו - چھونے-سے H5060

בּוֹ - اُسے H6153  
 יִטְמָא - ناپاک-ہوگا H5704  
 עַד- تک H5704  
 הָעֶרְב: - شام H6153

گا۔ رہے ناپاک تک شام وہ لے۔ نہا کر دھو کپڑے اپنے وہ جائے بیٹھ پر جگہ کی بیٹھنے کے اُس یا چھوئے کو جگہ کی لیٹنے کے اُس بھی جو

24 וְאִם - اور-اگر H7901  
 שָׁכַב - لیٹنا H7901  
 יִשְׁכַּב - لیٹے H7901  
 אִישׁ - آدمی H0376  
 אִתָּה - اُس-کے-ساتھ H0853  
 וּתְהִי - اور-ہو H1961  
 נִדְתָּהּ - اُس-کی-ماہواری H5079  
 עֲלָיו - اُس-پر H5079  
 יִטְמָא - ناپاک-ہوگا H5079  
 שְׂבַע - سات H7651  
 יָמִים - دن H3117

וְכָל- اور-ہر H3605  
 הַמִּשְׁכָּב - بستر H4904  
 אֲשֶׁר - جس-پر H7901  
 יִשְׁכַּב - لیٹے H7901  
 עֲלָיו - اُس-پر H7901  
 יִטְמָא: - ناپاک-ہوگا H7901  
 פ -

وہ بھی پر چیز جس گا۔ رہے ناپاک تک دن سات باعث کے لگنے خون مرد تو جائیں ہو شروع دن کے ماہواری وقت اُسی اور ہو بستر ہم سے عورت مرد اگر

گی۔ جائے ہو ناپاک وہ ہے لیٹتا

אז	נדתה	עת	בלא	רבים	ימים	דמה	זוב	יזוב	כי	ואשה
یا	أس-کی-مابواری-کے	وقت	بغير	بہت	دن	أس-کا-خون	بهاؤ	بہے	جب	اور-عورت
	<a href="#">H5079</a>	<a href="#">H6256</a>	<a href="#">H3808</a>		<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H1818</a>	<a href="#">H2101</a>	<a href="#">H2100</a>		<a href="#">H0802</a>

ندتہ	כימי	טמאתה	זוב	ימי	כל	נדתה	על	תזוב	כי
أس-کی-مابواری-کے	جیسے-دن	أس-کی-ناپاکی	بهاؤ-کے	دن	تمام	أس-کی-مابواری-کے	بعد	بہے	جب
<a href="#">H5079</a>	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H2932</a>	<a href="#">H2101</a>	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H5079</a>		<a href="#">H2100</a>	

היה	טמאה	הוא:
بوگی	ناپاک	بے
<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H2931</a>	<a href="#">H1931</a>

دنوں کے مابواری وہ تو رہے جاری بھی بعد کے دنوں کے مابواری خون یا آنے خون تک دنوں کئی وقت اور کسی کر چھوڑ دن کے مابواری کو عورت کسی اگر جائے نہ رُک خون تک جب گی رہے ناپاک تک وقت اُس طرح کی

ندتہ	כמשכב	זובה	ימי	כל	עליו	תשכב	אשר	המשכב	כל
أس-کی-مابواری-کا	جیسے-بستر	أس-کے-بهاؤ-کے	دن	تمام	أس-پر	لیٹے	جس-پر	بستر	پر
<a href="#">H5079</a>	<a href="#">H4904</a>	<a href="#">H2101</a>	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H3605</a>		<a href="#">H7901</a>		<a href="#">H4904</a>	<a href="#">H3605</a>

ندتہ:	כטמאת	יהיה	טמא	עליו	תשכב	אשר	הכל	וכל	לה	יהיה
أس-کی-مابواری-کی	جیسے-ناپاکی	بوگی	ناپاک	أس-پر	بیٹھے	جس-پر	چیز	اور-ہر	أس-کے-لیے	بوگا
<a href="#">H5079</a>	<a href="#">H2932</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H2931</a>		<a href="#">H3427</a>		<a href="#">H3627</a>	<a href="#">H3605</a>		<a href="#">H1961</a>

بے-ناپاک وہ بے بیٹھتی یا لیٹتی وہ بھی پر چیز جس

הערב:	עד	וטמא	במים	ורחץ	בגדיו	וכבס	וטמא	בם	הנוגע	וכל
شام	تک	اور-ناپاک-رہے	پانی-میں	اور-نہائے	اپنے-کپڑے	اور-دھوئے	ناپاک-بوگا	انہیں	جو-چھوئے	اور-ہر
<a href="#">H6153</a>	<a href="#">H5704</a>		<a href="#">H4325</a>	<a href="#">H7364</a>		<a href="#">H3526</a>			<a href="#">H5060</a>	<a href="#">H3605</a>

گا-رہے ناپاک تک شام وہ لے- نہا کر دھو کپڑے اپنے وہ چھوئے کو چیز ایسی بھی جو

ואם	טהרה	מזובה	וספרה	לה	שבעת	ימים	ואחר	טהרה:
اور-اگر	پاک-ہو	اپنے-بهاؤ-سے	تو-گے	اپنے-لیے	سات	دن	اور-بعد-میں	پاک-ہو
	<a href="#">H2891</a>	<a href="#">H2101</a>			<a href="#">H7651</a>	<a href="#">H3117</a>		<a href="#">H2891</a>

گی-ہو پاک وہ پھر کرے- انتظار دن سات مزید عورت پر جانے رُک کے خون

וביום	השמיני	תקח	לה	שתי	תרים	או	שני	בני	יונה	והביאה
اور-آٹھویں-دن	آٹھویں	لے	اپنے-لیے	دو	قمریاں	یا	دو	بچے	کبوتر-کے	اور-لائے
<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H8066</a>	<a href="#">H3947</a>		<a href="#">H8147</a>	<a href="#">H8449</a>		<a href="#">H8147</a>		<a href="#">H3123</a>	<a href="#">H0935</a>

אותם	אל	הכחן	אל	פתח	אל	מועד:
انہیں	کی-طرف	کابن	کی-طرف	دروازے	خیمے	ملاقات-کے
<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H3548</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H6607</a>	<a href="#">H0168</a>	<a href="#">H4150</a>

آئے-پاس کے امام پر دروازے کے خیمے کے ملاقات کر لے کبوتر جوان دو یا قمریاں دو وہ دن آٹھویں

ועשה	הכחן	את	האחד	חטאת	ואת	האחד	עלה	וכפר	עליה
اور-کرے	کابن	کو	ایک	گناہ-کی-قربانی	اور-کو	دوسرا	سوختنی-قربانی	اور-کفارہ-دے	أس-کے-لیے
	<a href="#">H3548</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0259</a>	<a href="#">H0853</a>		<a href="#">H0259</a>			

הכחן	לפני	יהיה	מזוב	טמאתה:
کابن	سامنے	یہوواہ-کے	بهاؤ-سے	أس-کی-ناپاکی-کے
<a href="#">H3548</a>	<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H2101</a>	<a href="#">H2932</a>

دے کفارہ کا ناپاکی کی اُس سامنے کے رب وہ یوں چڑھائے- لئے کے قربانی والی ہونے بھسم کو دوسرے اور لئے کے قربانی کی گناہ کو ایک سے میں اُن امام گا-

31	וְהִזְרִתָם	אֶת-	בְּנֵי-	יִשְׂרָאֵל	מִטְּמֵאֹתָם	וְלֹא	יָמֹתוּ	בְּטִמְאָתָם	בְּטִמְאָתָם
	اور-جدا-رکھو	کو	بیٹوں	اسرائیل-کے	اُن-کی-ناپاکی-سے	اور-نہ	میں	اپنی-ناپاکی-میں	ناپاک-کرنے-سے
	<a href="#">H0853</a>			<a href="#">H3478</a>	<a href="#">H2932</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H4191</a>	<a href="#">H2932</a>	

אֶת-	מִשְׁכְּנֵי	אֲשֶׁר	בְּתוֹכָם:
کو	میرے-مسکن	جو	اُن-کے-درمیان
<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H4908</a>		<a href="#">H8432</a>

گا جائے ہو ناپاک سے اُن بے درمیان کے اُن جو مقدس وہ میرا ورنہ جائیں۔ ہو ناپاک وہ سے جن جائے رکھا دُور سے چیزوں ایسی کو اسرائیلیوں کہ بے لازم گے۔ جائیں ہو ہلاک وہ اور

32	זֵאת	תּוֹרַת	הַזֵּב	וְאֲשֶׁר	יִתְצֵא	מִמֶּנּוּ	שְׂכַבְתָּ	זָרַע	לְטִמְאָהָ	בָּהּ:
	یہ	قانون	بھاؤ-والے-کا	اور-جس-سے	نکلے	اُس-سے	منی	کا-بیج	ناپاک-ہونے-کے-لیے	اُس-سے
	<a href="#">H2063</a>	<a href="#">H8451</a>	<a href="#">H2100</a>		<a href="#">H3318</a>		<a href="#">H7902</a>	<a href="#">H2233</a>		

کے ہونے خارج نطفہ جو وہ اور بے مریض کا جریان جو بے شامل مرد وہ میں اِس بے۔ گیا کیا بیان جیسے نیٹو ایسے سے معاملوں کے قسم اِس کہ بے لازم بے۔ ناپاک باعث

33	וְהָרִיחַ	בְּנִדְתָּהּ	וְהָיָב	אֶת-	זוֹזוֹ	לְזָכָר	וְלִנְקֵבָה	וְלְאִישׁ
	اور-بیمار	اپنی-مابواری-میں	اور-جو-بے	کا	اُس-کا-بھاؤ	مرد-کے-لیے	اور-عورت-کے-لیے	اور-آدمی-کے-لیے
	<a href="#">H1739</a>	<a href="#">H5079</a>	<a href="#">H2100</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H2101</a>	<a href="#">H2145</a>	<a href="#">H5347</a>	<a href="#">H0376</a>

אֲשֶׁר	יִשְׁכַּב	עִם-	טִמְאָהָ:	פ
جو	لیٹے	ساتھ	ناپاک	-
	<a href="#">H7901</a>		<a href="#">H2931</a>	

بے۔ جاتا ہو بستر ہم سے عورت ناپاک جو مرد وہ اور ہیں ایام کے مابواری کے جس بے شامل بھی عورت وہ میں اِس